

آیۃ الکرسی کی فضیلت و فوائد

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ آیۃ الکرسی کی کیا فضیلت ہے اور اس بارے میں کوئی حدیث ہو تو بیان کر دیجیے؟
سائل: میان (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

آیۃ الکرسی کی بہت فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے کے دینی و دنیوی فوائد احادیث میں وارد ہوئے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اپنا گھر بلکہ اردگرد سب گھر چوری اور ہر طرح کی بلا و آفت محفوظ ہوجاتے ہیں اور ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو جنت کی بشارت ہے۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ منبر پر فرما رہے تھے کہ "مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِهِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ أَمَّنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَالْذُّوِيرَاتِ حَوْلَهُ" جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کوئی چیز نہیں روک سکتی اور جس نے اسے لیٹتے وقت پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں محفوظ رکھے گا اور اس کے پڑوسی کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور اس کے گھر کے ارد گرد تمام گھر محفوظ ہوجائیں گے۔

(شعب الایمان باب تخصیص الآیۃ الکرسی بالذکر رقم 2174)

اور جنتی زیور کتاب میں علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمة نے فرمایا کہ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر آیۃ الکرسی کا کتبہ آویزاں کر (لگا) دیا جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہو گا۔ بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہو گا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آسکے گا۔ (جنتی زیور ص 589)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 1-7-2018

The excellence & benefits of Āyah al-Kursī

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: What is the virtue of Āyah al-Kursī, and if there is a Hadīth regarding it, then please can you mention it?

Questioner: Miya from U.K.

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Āyah al-Kursī holds great excellence and the religious & worldly benefits from reading it have been mentioned in Hadīth, that one's home, in fact all the homes in one's vicinity are protected from theft and all kinds of evils & calamities, and the one who recites it after each [of the five daily] salāh receives good news of [entry into] Paradise. Just as Sayyidunā 'Alī, may Allāh ﷺ increase him further in honour, stated that he heard from the Noble Messenger ﷺ that he ﷺ, while on the pulpit, was stating that,

"مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبَرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِهِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ، وَمَنْ قَرَأَهَا جِئَ يَأْخُذُ مَضْجَعُهُ أَمَّنَهُ اللَّهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَالْذُّوَيْرَاتِ حَوْلَهُ"

"Whomsoever recites Āyah al-Kursī after every salāh, nothing other than death can stop such a person from entering Jannah. Also, whomsoever recited this before sleeping, then Allāh Almighty will keep said person's home protected, as well as the homes of his neighbours; all the homes within his vicinity will be protected."

[Shu'ab al-Īmān, Hadīth no 2174]

'Allāmah 'Abdul Mustafā Āzhamī, upon be mercy, writes in the book Jannatī Zaywar, that if Āyah al-Kursī is written and its blessed writing is hung in a high place in any property, then Allāh ﷻ willing, such home will never be stricken with poverty. Rather, there will be blessings and increase in sustenance, and thieves will never be able to enter such home.

[Jannatī Zaywar, pg 589]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali